



## شہریت

اس صفحے پر

- [شہریت کی تقاریب](#)
- [شہریت کے لیے درخواست دینا](#)

### شہریت کی تقاریب

کونا وائرس (کووڈ-19) وبا کی وجہ سے محکمہ محفوظ ویڈیو لنک کے ذریعہ ان امیدواران کو اہل بنانے کے لیے جو کہ پہلے سے آسٹریلیائی شہری بننے کے لیے منظور شدہ ہیں ان لائن شہریت کی تقاریب منعقد کر رہا ہے۔

آن لائن تقاریب صدارتی آفیسر کے ساتھ اور عموماً انفرادی بنیاد پر ہوں گی، یا ایک گھر کے گروہ کے ساتھ اگر وہ ایک ہی علاقہ میں رہائش پذیر ہوں، اور روایتی ذاتی تقاریب سے کم وقت کی ہوں گی جبکہ اس بات کی یقین دہانی ضرور کریں گی کہ تمام قانونی ضروریات پوری کی جائیں۔ آن لائن تقاریب راست بازی کے اقدامات، جیسا کہ شناخت کی پڑتال کو شامل کرنے کے لیے جاری رکھی جائیں گی۔

بہت ساری عدالتی کاروائیوں میں کووڈ-19 کی پابندیوں کو سہل بنانے کی پیروی کرتے ہوئے، چھوٹی ذاتی شہریت کی تقاریب بھی جون 2020 سے دوبارہ متعارف کی جارہی ہیں۔ یہ تقاریب موجودہ ملک یا علاقہ کے چھوٹے اجتماعات کے احکامات کی تعمیل کرتی ہوں گی، اور کووڈ کی محفوظ ضروریات سے مطابقت رکھتی ہوں گی۔

افراد سے براہ راست رابطہ کیا جائے گا اور آن لائن شہریت کی تقاریب یا چھوٹی ذاتی گروپ کی تقاریب میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ آپ کی تقاریب کے لیے محکمہ یا آپ کی مقامی کاؤنسل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

عام طور پر، افراد کو ان کے منظوری کے نوٹس سے لے کر 12 مہینے تک تقاریب میں شرکت کرنے اور ضمانت دینے کا وقت ہوتا ہے، مگر، کووڈ-19 کے عرصہ کے دوران، اگر کوئی فرد اس 12 مہینے کے عرصہ میں تقاریب میں شرکت نہیں کرتا ہے تو شہریت کی منظوری منسوخ نہیں ہوگی۔

### شہریت کے لیے درخواست دینا

آسٹریلیائی شہریت کے لیے نئی درخواستیں وصول کی جارہی ہیں۔

ان تمام آسٹریلیائی شہریت کی درخواستوں پہ کام جاری ہے جو پہلے سے محکمہ میں درج کرائی جا چکی ہیں۔

ذاتی طور پر شہریت کے انٹرویو اور شہریت کے ٹیسٹ صرف 6 جولائی 2020 سے مغربی آسٹریلیا میں دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ اہل افراد سے رابطہ کیا جائے گا اور انہیں شہریت کے انٹرویو یا ٹیسٹ میں شرکت کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ آپ کی شہریت کے انٹرویو یا ٹیسٹ کے بارے میں محکمہ سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

جب دوسری ریاستوں اور خطوں میں ایسا کرنا محفوظ ہوگا تو ہم آہستہ آہستہ انٹرویو اور شہریت کے ٹیسٹ دوبارہ شروع کریں گے۔